

**BEFORE THE HON'ABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR.**

C.M No _____/2024

In Service Appeal No. 500 of 2024

Nisar Muhammad.....Petitioner/Appellant

V E R S U S

Inspector General of Police Khyber Pukhtunkhwa & others
.....Respondent.


I N D E X

S/N o	Description of Documents	Annexure	Page No. ^s
1	Application Along with Affidavit		1-2
2	Wakaltnama		3

NAS
Petitioner/Appellant .

Dated; 20/08/2024

Through:-


(Farhan Ullah Shahbanzai)
Advocate High Court
Peshawar

Cell-0321-9171522

OFFICE: FF.30, 5TH Floor Bilour Plaza, Peshawar Cantt, Peshawar

Email: farhanullah190@gmail.com

①

Before the Hon'able Service Tribunal Khyber Pukhtunkhwa, Peshawar.

C.M No _____/2024

In Service Appeal No. 500 of 2024

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 15073

Dated 20/8/24

Nisar Muhammad.....Petitioner/Appellant

VERSUS

Inspector General of Police Khyber Pukhtunkhwa & others

.....Respondent.

Application For fixing the above titled case for preliminarily hearing at Peshawar Bench instead at Bannu, or in alternative counsel for the appellant be allowed to advance his argument through video link from Peshawar in the instant appeal.

That the petitioner/appellant respectfully submits as under.

1. That the above tilted service appeal in pending before this Hon'able tribunal at Bannu wherein next date of hearing is fixed for 21-08-2024.
2. That as the counsel for the appellant belong to Peshawar and due to some family issues the counsel for the appellant is unable to travel Bannu, as the case is fixed for preliminary hearing, as such keeping in view the fact & circumstance fixing the case for preliminary hearing at Peshawar Bench is neither illegal nor unreasonable, rather it is more convenient to appellant, his counsel and Hon'able bench at Peshawar.
3. That in case the instant case has not been fixed before Peshawar Bench then the counsel for the appellant be provided an opportunity to advance his arguments through video link from Peshawar.
4. That there is no bar allowing the instant application.

It is therefore respectfully prayed that on acceptance this application the instant appeal be fixed at Peshawar Bench instead of Bannu or in alternative the counsel for the appellant be allowed to advance his arguments through video link from Peshawar.

AAJ wd.
Petitioner/appellant

Dated: 20/08/2024

Through:-

(Signature)
(Farhan Ullah Shahbanzai)
Advocate High Court
Peshawar

2

**BEFORE THE HON'ABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA,
PESHAWAR.**

C.M No _____/2024

In Service Appeal No. 500 of 2024

Nisar Muhammad.....Petitioner/Appellant

VERSUS


**Inspector General of Police Khyber Pukhtunkhwa & others
.....Respondent.**

AFFIDAVIT,



I, Farhan Ullah Shahbanzai Counsel for the appellant, as per instructions of my client, do hereby solemnly affirm and states on oath that the contents of accompanying application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon' able Court.

Dated; 20/08/2024



Deponent. 

3

48759	پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ
ایڈووکیٹ: <u>ضرخان اللہ سمائی</u>	PESHAWAR BAR ASSOCIATION
بار کونسل ایسوسی ایشن نمبر: <u>BC-11-31K3</u>	
رابطہ نمبر: <u>0321-917122</u>	

بعدالت جناب: مسٹر سید حیدر علی کوکال

دعویٰ: <u>مسٹر سید حیدر علی کوکال</u>	مخاتب: <u>ایڈوانس</u>
علت نمبر:	
مورخہ:	
جرم:	
تھانہ:	
باعت تحریر آگے	

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کاروائی متعلقہ آن مقام ضرخان اللہ سمائی کیلئے ضرخان اللہ سمائی نے ضرخان اللہ سمائی کو مکمل مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کال اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقررات ثالث و فیصلہ بر حلف دینے جواب دعویٰ اقبال دعویٰ اور درخواست از ہر قسم کی تصدیق زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ پالنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داخست منظور و قبول ہوگا دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانب التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا و کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کریں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے



المرقوم: 18/08/2024

العبد ضرخان اللہ سمائی العبد
مقام ضرخان اللہ سمائی کے لیے منظور ہے۔

Accepted by
ضرخان اللہ سمائی

ضرخان اللہ سمائی